

126454-خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے تنگ اور چست و شفاف اور شاٹ لباس پہننا

سوال

خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے تنگ اور شفاف لباس پہننے کا حکم کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

اول:

اصل تو یہی ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے اور خاوند اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنجھا اور خوبصورتی اختیار کرے، اور اس کے لیے ہر مباح لباس اور خوشبو وغیرہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اور ان (عورتوں) کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان کے اوپر ہیں﴾ البقرة (228).

قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

قوله تعالى: ﴿اور ان (عورتوں) کے لیے﴾:

یعنی ان عورتوں کے مردوں پر بھی اسی طرح حقوق زوجیت ہیں جس طرح ان عورتوں پر مردوں کے حقوق زوجیت ہیں، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے:

"میں بھی بالکل اسی طرح اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے خوبصورتی اختیار کرتی ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے تو بیوی سے پورے حقوق حاصل کروں، اور اس کے حقوق جو میرے ذمہ ہیں انہیں ادا نہ کروں بلکہ اس طرح اس کے حقوق میرے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اور ان (عورتوں) کے لیے بھی بالکل اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ہیں﴾.

یعنی بغیر کسی گناہ کے خوبصورتی و زینت اختیار کرنا.

دیکھیں: تفسیر القرطبی (123/3).

دوم:

اصل میں تو یہی ہے کہ بیوی کے لیے اپنے خاوند کے سامنے ایسا لباس پہننا جائز ہے جس سے اس کی پردہ والی چیز ظاہر ہوتی ہو، اور اسی طرح خاوند بھی ایسا لباس پہن سکتا ہے؛ کیونکہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم خاوند اور بیوی کو آپس میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی خاوند اور اس کی لونڈی کو.

معاویہ بن حیدہ قثمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا :

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شرمگاہ کے متعلق کیا کریں اور کیا چھوڑیں؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"تم اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو"

میں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوں تو؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"اگر تم استطاعت رکھو کہ اسے کوئی نہ دیکھ سکے تو پھر اسے کوئی بھی نہ دیکھے"

میں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی شخص علیحدگی میں اکیلا ہو تو؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے شرم و حیا کی جائے"

سنن ترمذی حدیث نمبر (2794) سنن ابوداؤد حدیث نمبر (4017) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1920) علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔

سوم :

اس بنا پر کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے شٹ اور شفاف و تنگ لباس زیب تن کرے یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ :

جی ہاں یہ جائز ہے، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی اپنی بیوی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ جب خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو ننگے دیکھ سکتے ہیں تو پھر شفاف و تنگ اور شٹ لباس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔

ذیل میں ہم علماء کرام کے فتاویٰ جات پیش کرتے ہیں :

1 مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے دریافت کیا گیا :

کیا عورت کے لیے تنگ و چست لباس زیب تن کرنا حرام ہے یا نہیں، یہ علم میں رہے کہ اس سے بیوی اپنے خاوند کے لیے خوبصورت بنا چاہتی ہو تو؟

کمیٹی کے علماء کرام نے جواب دیا :

اگر تو عورت صرف اپنے خاوند کے لیے استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وگرنہ جائز نہیں ہے؛ کیونکہ غالباً اس میں جسم کے اعضاء کی ساخت واضح ہو جاتی ہے اور پرفتن اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں۔

الشیخ عبدالعزیز بن باز۔

الشیخ عبدالرزاق عقیفی۔

الشیخ عبداللہ بن عدیان۔

فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (34/24)۔

2 الموسوعة الفقهیة میں درج ہے :

اگر ستر پوشی نہ ہوتی ہو اور جسم کی جلد کی سفیدی یا سرخی واضح ہوتی ہو تو شفاف لباس زیب تن کرنا جائز نہیں، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، چاہے گھر میں ہی ہو، اگر خاوند کے علاوہ کوئی اور بھی اسے دیکھ رہا ہو تو عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی۔

کیونکہ دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ خلاف مروت بھی ہے، اور سلف کے لباس کے بھی خلاف ہے، اور اس طرح کے لباس میں نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہوگی، لیکن اگر خاوند کے علاوہ بیوی کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو پھر عورت کے لیے ایسا لباس پہننا جائز ہے۔ انتہی

دیکھیں : الموسوعة الفقهیة (136/6)۔

3 شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں :

عورت کے لیے اپنی اولاد اور محرم مردوں کے سامنے شافٹ لباس زیب تن کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے جسم کا حصہ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن وہ حصہ جو عادتاً ظاہر ہوتا ہے اور جس میں کوئی فتنہ نہیں، عورت شافٹ لباس صرف اپنے خاوند کے سامنے ہی پہن سکتی ہے"

دیکھیں : المنتہی من فتاویٰ فضیلة الشیخ صالح الفوزان (170/3)۔

4 شیخ صالح الفوزان کا یہ بھی کہنا ہے :

بلاشک و شبہ عورت کا ایسا تنگ لباس پہننا جائز نہیں جس سے اس کے پرفتن اعضاء واضح ہوتے ہوں، صرف اپنے خاوند کے سامنے پہن سکتی ہے، لیکن خاوند کے علاوہ کسی اور کے سامنے ایسا لباس زیب تن کرنا جائز نہیں ہے چاہے صرف عورتیں ہی ہوں؛ کیونکہ اس طرح وہ دوسروں کے لیے غلط نمونہ بن جائیگی، کہ جب عورتیں اسے ایسا لباس زیب تن کرتے ہوئے دیکھیں گی تو وہ بھی اس کی اقتدا کرنا شروع کر دیں گی۔

اور پھر اسے تو ہر ایک سے ستر پوشی کرنے کا حکم ہے کہ وہ ہر چھپانے والی سا تہ چیز سے اپنا ستر چھپا کر رکھے، صرف اپنے خاوند کے سامنے نہیں۔

بالکل مردوں کی طرح عورت بھی باقی سب عورتوں سے اپنا ستر چھپا کر رکھے گی، لیکن جن اشیاء کو عادتاً ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں جنہیں ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر کرے گی۔

دیکھیں: المننتقی من فتاویٰ فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان (176/3-177)۔

چہارم:

خاوند اور بیوی کو چاہیے کہ وہ تنگ اور شفاف اور شٹ لباس میں دوسرے شرعی احکام کا بھی خیال رکھیں۔

1 اس لیے مرد ایسا لباس زیب تن مت کرے جو ٹخنوں پر ہو؛ کیونکہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

مزید آپ سوال نمبر (762) اور (97786) کے جوابات کا مطالعہ ضرور کریں۔

2 مرد کے لیے سرخ رنگ کا اور زعفرانی رنگ اور پیلے رنگ کا لباس پہننا جائز نہیں، لیکن بیوی کے لیے جائز ہے۔

مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر (72878) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔

3 مرد کے لیے طبعی ریشم کا بنا ہوا لباس زیب تن کرنا حلال نہیں، لیکن مصنوعی ریشم نہیں۔

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر (30812) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔

4 اور نہ ہی مرد کے لیے ایسے جانوروں کی جلد کا لباس پہننا جائز ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، چاہے انکی جلد کو دباغت بھی دی گئی ہو۔

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر (9022) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

5 خاوند اور بیوی کے لیے ایسا لباس زیب تن کرنا حلال نہیں جو کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر (108996) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

6 بیوی کے لیے ایسا لباس زیب تن کرنا جائز نہیں جو مردوں کے لیے مخصوص ہو، مثلاً رومال وغیرہ اور نہ ہی خاوند کے لیے ایسا لباس زیب تن کرنا جائز ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو مثلاً فراک وغیرہ۔

مزید آپ سوال نمبر (6991) اور (36891) کے جوابات کا مطالعہ ضرور کریں۔

واللہ اعلم۔